



growth through energy

THE HUB POWER COMPANY LIMITED

11th Floor, Ocean Tower,
G-3, Block-9, Main Clifton Road
P. O. Box 13841, Karachi-75600
Tel: (21) 3587 4677-86, Fax (21) 3587 0397
Website: <http://www.hubpower.com>

Daily Times
Friday, July 3, 2015

FBR to refund Rs 1.9bn to Hubco on apex court order

KARACHI: Federal Board of Revenue (FBR) will refund Rs 1.9 billion to Hub Power Company (Hubco) after verdict of Supreme Court of Pakistan. The supreme judiciary has set aside tax demand created by FBR against Hubco on issuance of shares to sponsors. In 1998, FBR made assessment Company did not withhold tax at time of issuance of shares to sponsors against project development costs incurred by them. Appeals filed by Company before commissioner of Income Tax and thereafter with the Income Tax Appellate Tribunal were decided against Company. Against decision of Tribunal, Company filed appeals before Islamabad High Court, which were also decided against it in March 2012. The Company filed further appeals before Supreme

Court of Pakistan. On April 17, 2014, Supreme Court, while overturning High Court decision, decided case in favour of Company. Against the decision of Supreme Court, FBR filed review petitions, which were dismissed by Supreme Court. According to a statement issued by Hub Power Company, "We welcome Supreme Court's decision which comes as a relief to us and has further fortified our confidence in the judiciary. Throughout the legal proceedings over the last seventeen years, we have maintained this transaction was not taxable and this judgment has clearly vindicated our position. Our commitment to Pakistan remains firm and we continue to align our corporate interests with the needs and strengths of the country. **STAFF REPORT**

Prepared By:


Public Relations



growth through energy

THE HUB POWER COMPANY LIMITED

11th Floor, Ocean Tower,
G-3, Block-9, Main Clifton Road
P. O. Box 13841, Karachi-75600
Tel: (21) 3587 4677-86, Fax (21) 3587 0397
Website: <http://www.hubpower.com>

Karachi, Friday, July 3, 2015

The Nation

SC decision entitles Hubco to Rs1.9b refund

OUR STAFF REPORTER
KARACHI

In a landmark decision, the Supreme Court of Pakistan has set aside the tax demand created by the Federal Board of Revenue (FBR) against the Hub Power Company on the issuance of shares to the sponsors. Following the decision, the Company is entitled to a refund of Rs 1.9 billion.

In 1998, the FBR made assessments that the Company did not pay withhold tax at the time of issuance of shares to sponsors against project development costs incurred by them. Appeals filed by the Company before the Commissioner of the Income Tax and thereafter with the Income Tax Appellate Tribunal were decided against the Company. Against the decision of the Tribunal, the Company filed appeals before the Islamabad High Court, which were also decided against it in March 2012.

The Company filed further appeals before the Supreme Court of Pakistan. On April 17, 2014, the Supreme Court, while overturning the High Court decision, decided the case in favour of the Company. Against the decision of the Supreme Court, FBR filed review petitions which were dismissed by the Supreme Court.

According to a statement issued by the Hub Power Company, "We welcome the Supreme Court's decision which comes as a relief to us and has further fortified our confidence in the judiciary. Throughout the legal proceedings over the last seventeen years, we have maintained that this transaction was not taxable and this judgment has clearly vindicated our position. Our commitment to Pakistan remains firm and we continue to align our corporate interests with the needs and strengths of the country."

Prepared By:





growth through energy

THE HUB POWER COMPANY LIMITED

11th Floor, Ocean Tower,
G-3, Block-9, Main Clifton Road
P. O. Box 13841, Karachi-75600
Tel: (21) 3587 4677-86, Fax (21) 3587 0397
Website: <http://www.hubpower.com>

Pakistan
OBSERVER

Friday, July 3, 2015

Hubco to receive tax refund of Rs. 1.9b

AMANULLAH KHAN

KARACHI—In a landmark decision, the Honourable Supreme Court of Pakistan has set aside the tax demand created by the Federal Board of Revenue (FBR) against the Hub Power Company (Company) on the issuance of shares to the sponsors. Following the decision, the Company is entitled to a refund of Rs. 1.9 billion.

In 1998, the FBR made assessments that the Company did not withhold tax at the time of issuance of shares to sponsors against project development costs incurred by them. Appeals filed by the Company before the Commissioner of the Income Tax and thereafter with the Income Tax Appellate Tribunal were decided against the Company. Against the decision of the Tribunal, the Company filed appeals before the Islamabad High Court, which were also decided against it in March 2012.

The Company filed further appeals before the Su-

preme Court of Pakistan. On April 17, 2014, the Supreme Court, while overturning the High Court decision, decided the case in favour of the Company. Against the decision of the Supreme Court, FBR filed review petitions which were dismissed by the Supreme Court.

According to a statement issued by the Hub Power Company, "We welcome the Supreme Court's decision which comes as a relief to us and has further fortified our confidence in the judiciary. Throughout the legal proceedings over the last seventeen years, we have maintained that this transaction was not taxable and this judgment has clearly vindicated our position. Our commitment to Pakistan remains firm and we continue to align our corporate interests with the needs and strengths of the country." The Company is fueled with the vision to continue to be energy leader in Pakistan and is exploring economical, sustainable and reliable ways of producing energy.

Prepared By:



بانی : میر خلیل الرحمن

روزنامہ جنگ کراچی

جمعہ 15 رمضان المبارک 1436ھ 3 جولائی 2015ء

ایف بی آر حب پاور کو ٹیکس ریفرنڈ کی مد میں 1.9 ارب روپے واپس کریگی

سپریم کورٹ نے اسپانسرز کو حصص کے اجراء پر ٹیکس کٹوتی نہ کرنے کے کہنی فیصلے کو درست قرار دے دیا

میں ایپیلیں دائر کی جس نے مارچ 2012 میں کمپنی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حب پاور کمپنی نے سپریم کورٹ میں ایپیلیں دائر کیں جس میں معزز عدالت نے 17 اپریل 2014 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کمپنی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایف بی آر نے نظر ثانی کی ایپیلیں دائر کیں جن کو مسترد کر دیا گیا۔ حب پاور کمپنی کی جانب سے جاری کئے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس فیصلہ سے عدلیہ پر ہمارے اعتماد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ گذشتہ سترہ سالوں میں ہونے والی قانونی کارروائیوں کے دوران ہم اس بات پر قائم رہے کہ اس لین دین پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے ہماری پوزیشن کو درست ثابت کر دیا ہے۔

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سپریم کورٹ نے ایف بی آر کی جانب سے حب پاور کمپنی کے اسپانسرز کو حصص کے اجراء پر ٹیکس کٹوتی نہ کرنے کے کہنی کے فیصلے کو صحیح قرار دیتے ہوئے حب پاور کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے بعد ایف بی آر حب پاور کو ٹیکس ریفرنڈ کی مد میں وصول کئے گئے 1.9 ارب روپے واپس کرے گی۔ کمپنی کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق 1998 میں ایف بی آر کے اسیمنٹ آرڈر کے مطابق حب پاور کمپنی نے اپنے منصوبوں پر آنے والی لاگت پر کمپنی کے اسپانسرز کو حصص کے اجراء کے وقت ٹیکس کٹوتی نہیں کی تھی۔ کمپنی نے ایف بی آر کے فیصلے کے خلاف پہلے انکم ٹیکس کمشنر اور پھر انکم ٹیکس ایپلٹ ٹریبونل میں ایپیلیں دائر کیں جن کو مسترد کر دیا گیا۔ بعد ازاں حب پاور کمپنی نے ایپلٹ ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ



جمعہ، 15 رمضان المبارک 1436ھ، 3 جولائی 2015ء

ایف بی آر حب پاور کمپنی کو 1.9 ارب روپے کا ٹیکس ریفرنڈ جاری کریگا

کراچی (بزنس رپورٹر) سپریم کورٹ نے ایف بی آر کی جانب سے حب پاور کمپنی کے اسپانسرز کو حصص کے اجرا پر ٹیکس کٹوتی نہ کرنے کے کمپنی کے فیصلے کو صحیح قرار دیتے ہوئے حب پاور کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے بعد ایف بی آر حب پاور کو ٹیکس ریفرنڈ کی مد میں وصول کیے گئے 1.9 ارب روپے واپس کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق 1998 میں ایف بی آر کے ایسیمنٹ آرڈر کے مطابق حب پاور کمپنی نے اپنے منصوبوں پر آنے والی لاگت پر کمپنی کے اسپانسرز کو حصص کے اجرا کے وقت ٹیکس کٹوتی نہیں کی تھی۔ کمپنی نے ایف بی آر کے فیصلے کے خلاف پہلے انکم ٹیکس کمشنر اور پھر انکم ٹیکس ایپلٹ ٹریبیونل میں اپیلیں دائر کیں جن کو مسترد کر دیا گیا، بعد ازاں حب پاور کمپنی نے ایپلٹ ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی جس نے مارچ 2012 میں کمپنی کے خلاف فیصلہ سنا دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حب پاور کمپنی نے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کیں جس میں معزز عدالت نے 17 اپریل 2014 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کمپنی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کیخلاف ایف بی آر نے نظر ثانی کی اپیلیں دائر کیں جن کو مسترد کر دیا گیا۔ حب پاور کمپنی کے جاری کردہ اعلیٰ میں کہا گیا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔



growth through energy

THE HUB POWER COMPANY LIMITED

11th Floor, Ocean Tower,
G-3, Block-9, Main Clifton Road
P. O. Box 13841, Karachi-75600
Tel: (21) 3587 4677-86, Fax (21) 3587 0397
Website: http://www.hubpower.com



جماد المبارک 15، رمضان المبارک 1438ھ 3 جون 2015ء

ایفنی آر ڈی پاور کمپنی کو 1.9 روپے کا سٹیکسٹنڈ کرے گا

سپریم کورٹ نے جب پاور کمپنی کے اسپانسرز کو حصص کے اجراء پر ٹیکس کٹوتی نہ کرنے کے فیصلے کو درست قرار دے دیا

<p>کی ایکٹیو ڈائریکٹرز کیلئے اسپانسرز کو مسترد کر دیا گیا۔ جب پاور کمپنی کی جانب سے یہاری کیے گئے احکامات میں کہا گیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس فیصلے سے عدلیہ پر احکامات کا عمل میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ کرناٹک 17 مئی 2012ء کو اپنی قانونی کارروائیوں کے دوران ہم اس بات پر قائم رہے کہ اس فیصلے نے ہماری پوزیشن کو درست کر دیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہماری دلچسپی میں اضافہ رہے گی اور ہم اپنے کاروبار میں متواتر کوٹنگ کے</p>	<p>کے خلاف اپنے اہم ٹیکس مشنرز اور دیگر اہم ٹیکس اہلیت ٹریڈنگ میں ایکٹیو ڈائریکٹرز کیلئے اسپانسرز کو مسترد کر دیا گیا۔ بعد ازاں جب پاور کمپنی نے اہلیت ٹریڈنگ کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد جلی کورٹ میں ایکٹیو ڈائریکٹرز جس نے مارچ 2012ء میں کھلی کے خلاف فیصلے جاری کیا۔ اسلام آباد جلی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جب پاور کمپنی نے سپریم کورٹ میں ایکٹیو ڈائریکٹرز جس میں معزز عدالت نے 17 اپریل 2014ء کو اسلام آباد جلی کورٹ کے فیصلے کو کاغذی قرار دیا ہے۔ اس کھلی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایفنی آر ڈی نے ٹیکس</p>	<p>کراچی ڈیپازٹس ریگولیشنز کے تحت سپریم کورٹ نے ایفنی آر ڈی کی جانب سے جب پاور کمپنی کے اسپانسرز کو حصص کے اجراء پر ٹیکس کٹوتی نہ کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ جب پاور کمپنی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایفنی آر ڈی کی جانب سے جب پاور کمپنی کے اسپانسرز کو حصص کے اجراء پر ٹیکس کٹوتی نہ کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایفنی آر ڈی نے ٹیکس</p>
---	---	--

Prepared By:



جمعۃ المبارک 3 جولائی 2015ء

جہانِ پاکِستان

حبکو کو 1.9 ارب روپے کا ٹیکس ریفرنڈ جاری ہوگا

پہلے انکم ٹیکس کمشنر اور پھر انکم ٹیکس ایپلٹ ٹریبونل میں اپیلیں دائر کیں جن کو مسترد کر دیا گیا۔ بعد ازاں حب پاور کمپنی نے ایپلٹ ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی جس نے مارچ 2012 میں کمپنی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حب پاور کمپنی نے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کیں جس میں معزز عدالت نے 17 اپریل 2014 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کمپنی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایف بی آر نے نظر ثانی کی اپیلیں دائر کیں جن کو مسترد کر دیا گیا۔

کراچی (کامرس رپورٹر) سپریم کورٹ نے ایف بی آر کی جانب سے حب پاور کمپنی کے اسپانسرز کو حصص کے اجراء پر ٹیکس کٹوتی نہ کرنے کے کمپنی کے فیصلے کو صحیح قرار دیتے ہوئے حب پاور کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے بعد ایف بی آر حب پاور کو ٹیکس ریفرنڈ کی مد میں وصول کئے گئے 1.9 ارب روپے واپس کرے گی، تفصیلات کے مطابق 1998 میں ایف بی آر کے اسسٹنٹ آرڈر کے مطابق حب پاور کمپنی نے اپنے منصوبوں پر آنے والی لاگت پر کمپنی کے اسپانسرز کو حصص کے اجراء کے وقت ٹیکس کٹوتی نہیں کی تھی۔ کمپنی نے ایف بی آر کے فیصلے کے خلاف



جمعہ 15 رمضان المبارک 1436 ہجری، 3 جولائی 2015ء

ایف بی آر جب پاور کو ٹیکس 1.9 ارب روپے کا ریفرنڈم واپس پا کرے گا

سپریم کورٹ نے ایف بی آر کی جانب سے حب پاور کمپنی کے اسپانسرز کو حصص کے اجراء پر ٹیکس کٹوتی نہ کرنے کے کمپنی کے فیصلے کو صحیح قرار دے دیا۔ کمپنی نے ایف بی آر کے فیصلے کے خلاف پہلے انکم ٹیکس کمشنر اور پھر انکم ٹیکس ایپلٹ ٹریبیونل میں اپیلیں دائر کیں جنہیں مسترد کر دیا گیا۔

اپیلیں دائر کی جس نے مارچ 2012 میں کمپنی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حب پاور کمپنی نے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کیں جس میں معزز عدالت نے 17 اپریل 2014 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کمپنی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایف بی آر نے نظر ثانی کی اپیلیں دائر کیں جن کو مسترد کر دیا گیا۔ حب پاور کمپنی کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس فیصلہ سے عدلیہ پر ہمارے اعتماد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ گذشتہ سترہ سالوں میں ہونے والی قانونی کاروائیوں کے دوران ہم اس بات پر قائم رہے کہ اس لین دین پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے ہماری پوزیشن کو درست ثابت کر دیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہماری وابستگی مضبوط رہے گی اور ہم اپنے کارپوریٹ مفادات کو ملک کے استحکام اور ضروریات کے ساتھ ہم آہنگ رکھیں گے۔

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سپریم کورٹ نے ایف بی آر کی جانب سے حب پاور کمپنی کے اسپانسرز کو حصص کے اجراء پر ٹیکس کٹوتی نہ کرنے کے فیصلے کو صحیح قرار دیتے ہوئے حب پاور کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے بعد ایف بی آر جب پاور کو ٹیکس ریفرنڈم کی مد میں وصول کیے گئے 1.9 ارب روپے واپس کرے گی۔ 1998 میں ایف بی آر کے

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سپریم کورٹ نے ایف بی آر کی جانب سے حب پاور کمپنی کے اسپانسرز کو حصص کے اجراء پر ٹیکس کٹوتی نہ کرنے کے فیصلے کو صحیح قرار دیتے ہوئے حب پاور کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے بعد ایف بی آر جب پاور کو ٹیکس ریفرنڈم کی مد میں وصول کیے گئے 1.9 ارب روپے واپس کرے گی۔ 1998 میں ایف بی آر کے

3 جولائی 2015ء



سپریم کورٹ کا ایف بی آر کو 1.9 ارب روپے حب کوریفینڈ کرنے کا حکم

● 1998 میں ایف بی آر نے حب پاور کمپنی کے اسپانسرز کی ٹیکس کٹوتی نہیں کی تھی۔

● کمپنی کی پٹیشن پر سپریم کورٹ کا ایف بی آر کو ادائیگی کا حکم، انتظامیہ کا خیر مقدم

کر دیا گیا۔ بعد ازاں حب پاور کمپنی نے ایپلٹ ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی جس نے مارچ 2012 میں کمپنی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حب پاور کمپنی نے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کیں جس میں معزز عدالت نے 17 اپریل 2014 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کمپنی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ حب پاور کمپنی کی جانب سے جاری کئے گئے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اس فیصلہ سے عدلیہ پر ہمارے اعتماد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔

کراچی (پ ر) سپریم کورٹ نے ایف بی آر کی جانب سے حب پاور کمپنی کے اسپانسرز کو حصص کے اجراء پر ٹیکس کٹوتی نہ کرنے کے کمپنی کے فیصلے کو صحیح قرار دیتے ہوئے ایف بی آر کی حب پاور کو ٹیکس ریفرنڈ کی مد میں وصول کئے گئے 1.9 ارب روپے واپس کرنے کا حکم دیا ہے، رپورٹ کے مطابق 1998 میں ایف بی آر کے Assessment Order کے مطابق حب پاور کمپنی نے اپنے منصوبوں پر آنے والی لاگت پر کمپنی کے اسپانسرز کو حصص کے اجراء کے وقت ٹیکس کٹوتی نہیں کی تھی۔ کمپنی نے ایف بی آر کے فیصلے کے خلاف پہلے انکم ٹیکس کمشنر اور پھر انکم ٹیکس ایپلٹ ٹریبونل میں اپیلیں دائر کیں جن کو مسترد